

برائے فوری اجراء

برامپٹن نے برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری سہولت گاہ کے لیے \$128 ملین وفاقی اور صوبائی سرمایہ کاری حاصل کر لی ہے

برامپٹن، آن (15 اپریل 2021) – آج، میئر پیٹرک براؤن؛ برامپٹن سٹی کونسلرز؛ مندر سدھو، منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ کے پارلیمنٹری سیکٹری، نے محترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے؛ امرجوت سندھو، رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ، نے محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریو منسٹر فار انفراسٹرکچر کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ کی ذخیرے اور دیکھ بھال کی تیسری سہولت گاہ کے لیے فنڈنگ کا اعلان کیا۔

حکومت کینیڈا انویسٹنگ ان کینیڈا پلان کی پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر سٹریٹجی (PTIS) کے ذریعے اس پراجیکٹ میں \$69.9 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ حکومت اونٹاریو \$58.2 ملین سے زائد رقم فراہم کر رہی ہے اور سٹی آف برامپٹن اس میں \$46.6 ملین سے زائد ادا کر رہا ہے۔

پراجیکٹ کے مرحلہ 1 میں تقریباً 400,000 مربع فٹ پر مشتمل ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی سہولت گاہ شامل ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 36 مینٹیننس بیز اور گراج کے تقریباً 40 اوور ہیڈ دروازے شامل ہوں گے، تاکہ اس میں انتظامی اور دیکھ بھال میں معاونت کی جگہ کے علاوہ 250 تک معیاری 40 فٹ کے برابر بسوں کو رکھا جا سکے۔ کام میں ایک جگہ پختہ اور موبائل ہوائسٹس کی تنصیب، ایک وہیکل انسپیکشن پٹ، ایک اوور ہیڈ کریں، ایندھن ذخیرہ کرنے اور بھرنے کے نظام، گاڑیوں کے مقام اور ریڈیو کا نظام اور بجلی کی بیک اپ پیداوار شامل ہے۔

اس نئی سہولت گاہ کی تعمیر برامپٹن کے لیے عوامی ذرائع آمد و رفت کے انفراسٹرکچر کی گنجائش، معیار اور حفاظت کو بہتر بنائے گی اور الیکٹریک بسوں کو چلانے کے لیے مستقبل میں انفراسٹرکچر کی تنصیب کو ممکن بنائے گی اور رہائشیوں کے لیے نقل و حمل کے صاف تر اور زیادہ مؤثر طریقہ ہائے کار بنائے گی۔ سٹی آف برامپٹن سہولت گاہ کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے ابھی بھی \$150 ملین کی اضافی فنڈنگ کے حصول کی کوشش میں ہے۔

یہ فنڈنگ اس سہولت گاہ کے مرحلہ 1 کی تعمیر کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد دے گی۔ اس نئی سہولت گاہ کی تعمیر کا ہدف دو مراحل میں ہے، جو 2022 میں شروع ہو گا اور مرحلہ 1 سال 2024 کے اواخر میں مکمل ہو گا۔

سٹی موجودہ طور پر اس پراجیکٹ کے لیے انوائرنمنٹل پراجیکٹ رپورٹ (EPR) ریویو پیریڈ میں ہے۔ یہ رپورٹ 19 اپریل تک Brampton.ca/transitfacility پر نظر ثانی کے لیے کھلی ہے۔ رائے دینے کے خواہشمند لوگ پراجیکٹ کے بیان کردہ رابطوں پر مربوط ہو سکتے ہیں۔

نکس

- [کینیڈا اور اونٹاریو برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے عوامی ذرائع آمد و رفت کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں](#)
- [ٹرانزٹ کی سہولت گاہ کا تیسرا انوائرنمنٹل پراجیکٹ رپورٹ \(EPR\) ریویو پیریڈ](#)
- [سٹی آف برامپٹن بلا اخراج والی بسوں کو ممکن بنانے کے لیے شمالی امریکہ کی سب سے بڑی الیکٹریک بس ٹرانزٹ کی سہولت گاہوں میں سے ایک تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے](#)

اقتباسات

"ہم برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری ذخیرہ اور دیکھ بھال کی سہولت گاہ کے لیے حکومت کینیڈا اور حکومت اونٹاریو کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ برامپٹن ٹرانزٹ کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے ٹرانزٹ سسٹمز میں سے ایک ہے اور یہ نئی سہولت گاہ ہمارے قابل رسائی اور مربوط ٹرانزٹ نیٹ ورک کو سہارا دینے میں مدد دے گی اور اپنی تعمیر کے دوران برامپٹن میں 850 نئی نوکریاں سالانہ اور پوری طرح بن جانے اور کام شروع کرنے پر تقریباً 1,000 نوکریاں پیدا کرے گی۔ ہماری کونسل کی ایک ماحول دوست شہر ہونے کی ترجیح پر کام کرتے ہوئے، ہم اس سہولت گاہ کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے فنڈنگ کے حصول کی کوشش میں ہیں۔"

"برامپٹن اسحتکامیت میں قائدانہ مقام رکھتا ہے اور یہ بات ہی موزوں ہو گی کہ ہمارا ٹرانزٹ نیٹ ورک اچھی طرح مربوط اور ماحول دوستانہ ہو۔ برامپٹن سٹی کونسل برامپٹن ٹرانزٹ کی ذخیرے اور دیکھ بھال کی تیسری سہولت گاہ کے لیے تمام حکومتی درجات سے معاونت موصول کرنے پر پرجوش ہے، جبکہ ہم بجلی پر چلنے والے اور صفر اخراج کے حامل بس فلیٹ پر منتقل ہونے اور اپنے اسحتکامیت کے ہدف پر پورا اترنے کے لیے پرامید ہیں۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن ایک قابل استحکام اور توانائی کی بچت کرنے والا ٹرانزٹ سسٹم بنانے کے لیے وقف ہے اور یہ سرمایہ کاریاں ہمارے ماحول دوست اقدامات میں سے ایک سنگ میل پراجیکٹ کو ممکن بنائیں گی - ٹرانزٹ کی ایک تیسری سہولت گاہ۔ ہم برامپٹن میں سرمایہ کاری لانے کے لیے اپنے اہم فریقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھنے کے لیے پرامید ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"آج کی سرمایہ کاری برامپٹن کی ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی سب سے بڑی سہولت گاہ کے قیام میں مدد دے گی۔ یہ رہائشیوں کو آنے والے سالوں کے لیے ٹرانزٹ کے معیاری اور محفوظ ذرائع تک رسائی کے حصول کو یقینی بنائے گی، اچھی ادائیگی والی نوکریاں پیدا کرے گی اور ساتھ ہی ماحول دوست اور کم کاربن والے ٹرانزٹ سسٹمز کے لیے مستقبل کے مواقع پیدا کرے گی۔ کینیڈا کا انفراسٹرکچر پلان ہزاروں پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے، ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے اور زیادہ صاف اور مشمول کمیونٹیوں کو فروغ دیتا ہے۔"

- مندر سدھو، منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے پارلیمنٹری سیکٹری اور رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن ساؤتھ منجانب محترمہ کیتھرین میک کینا، فیڈرل منسٹر فار انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

"حکومت اونٹاریو یہ اہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے اپنے وفاقی اور بلدیاتی ہم منصبوں کے ساتھ شراکت داری کر کے صوبے میں ٹرانزٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے اپنے عزم کو ایک مرتبہ پھر سے ظاہر کر رہی ہے۔ ایک نیا ٹرانزٹ ٹرمینل برامپٹن کے رہائشیوں کا سفر میں وقت کم کرنے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ وقت بڑھانے کے ہمارے منصوبہ کا بس ایک اور قدم ہے۔"

- امرجوت سندھو، رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ منجانب محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

چینٹیل ابرٹن

پریس سیکریٹری

آفس آف دی منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca

کرسٹین بوجولڈ
پریس سیکریٹری
آفس آف دی انرایبل لوری اسکاٹ، اونٹیریو منسٹر آف انفراسٹرکچر
416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca

سوفیا سوزا ڈیاز
کمیونیکیشنز برانچ
اونٹاریو منسٹر آف انفراسٹرکچر
437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca

میڈیا ریلیشنز
انفراسٹرکچر کینیڈا
613-960-9251
ٹول فری: 1.877.250.7154
ای میل: infoc.media.infoc@canada.ca
ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔
ویب: [انفراسٹرکچر کینیڈا](http://www.infoc.ca)